

14038 - کیا عدت ختم ہونے کے بعد بیوی سے رجوع کرسکتا ہے

سوال

اگر خاوند اور بیوی کے درمیان طلاق کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ جدائی رہے تو کیا وہ دوبارہ آپس میں شادی کرسکتے ہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جب خاوند اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دے اور اس کی عدت ختم ہو جائے تو بیوی اس سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ بائن ہونے کی وجہ سے اجنبی بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے خاوند کے پاس نہیں آسکتی لیکن ایک شرط پر ہوسکتا ہے :

یہ کہ نکاح دوبارہ کیا جائے اور اس نکاح میں سب شرعی شروط کا ہونا ضروری ہے ، آپ اس کی تفصیل کے لیے سوال نمبر (2127) کا مطالعہ کریں -

لیکن اگر خاوند اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ اپنے پہلے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ کسی اور شخص سے شرعی نکاح (حلالہ نہیں) کرے اور وہ اپنی مرضی سے اسے کسی وقت طلاق دے دے تو وہ پھر اگر وہ چاہے تو اپنے پہلے خاوند سے شادی کرسکتی ہے -

اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

{ طلاق دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی سے چھوڑ دینا ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو ، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے والے کے لیے کچھ دے ڈالے ، اس میں دونوں پر گناہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیں -

پھر اگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرے ، پھر اگر --- { البقرة (229 - 230)

توسب اہل علم کے ہاں اس آیت میں آخری طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے ۔

اور سنت نبویہ میں بھی اس کے دلائل ملتے ہیں صحیحین میں مندرجہ ذیل حدیث مروی ہے :

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ رفاعۃ القرظی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہنے لگی کہ رفاعہ نے مجھے طلاق بتہ دے دی تو میں نے اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور مسئلہ یہ ہے کہ عبدالرحمن کے پاس تو بے جان سی چیز ہے

تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے :

شائد تو دوبارہ رفاعۃ کے پاس جانا چاہتی ہے ، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ تیرا اورتو اس سے ذائقہ چکھ نہ لے ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر (4856) صحیح مسلم حدیث نمبر (2587) ۔

(بت طلاق) حدیث میں اس لفظ کا معنی ہے کہ مجھے اس نے طلاق دی جس کی بنا پر میرا اس سے علیحدہ ہونا حلال ہو گیا یعنی تیسری طلاق دے دی ۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان (حتی تذوقی عسیلتہ و یدوق عسیلتک) یہ الفاظ جماع سے کنایہ ہیں کہ جب تک وہ تجھ سے جماع نہیں کر لیتا ۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ جس عورت کو تین طلاق ہو چکی ہوں وہ اپنے اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے اور پھر وہ شخص اس سے جماع کرے اور طلاق دے اور یہ عورت (اس دوسرے نکاح) کی عدت سے فارغ ہو جائے (تو پھر وہ اپنے پہلے خاوند سے شادی کرسکتی ہے)

لیکن صرف عقد نکاح کر لینا ہی کافی نہیں اور نہ ہی اس کی وجہ وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہوجاتی ہے ۔

صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ان کے بعد آنے والے اکثر علماء کرام کا بھی یہی مسلک ہے ۔ دیکھیں شرح مسلم للنووی (3 / 10) ۔

سب سے زیادہ علم تو اللہ عزوجل کے پاس ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے ۔ آمین یا رب العالمین ۔

واللہ اعلم .